

دادی کے ساتھ چھٹیاں

Holidays with grandmother



Violet Otieno



Catherine Groenewald



Samrina Sana



Urdu / English



Level 4

(imageless edition)



اُودونگو اور اِپيو شهر ميں اپنے والد كے ساتھ رهِتتے تھے۔ اُنہيں چھٹیوں كا انتظار تھا۔ نا
صرف اس ليے كہ سكول بند ہو بلكہ وہ اپني دادِي كے گھر جا سكيں۔ وہ ايڪ بڑِي ندي
كے كنارے مچھلياں پكڑِي جانے والي گاؤں ميں رهِتي تھيں۔

...

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They looked forward to the holidays. Not just because school was closed, but because they went to visit their grandmother. She lived in a fishing village near a large lake.

اُودونگو اور اِپیو بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ایک بار پھر سے اپنی دادی کے گھر جانا تھا۔ ایک رات پہلے انہوں نے اپنا سامان باندھا اور گاؤں جانے کے لمبے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ وہ پوری رات سو نہیں سکے اور چھٹیوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔

...

Odongo and Apiyo were excited because it was time to visit their grandmother again. The night before, they packed their bags and got ready for the long journey to her village. They could not sleep and talked the whole night about the holiday.

اگلی صبح جلد ہی وہ اپنے ابو کی گاڑی میں گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ پہاڑوں، جنگلی جانوروں اور چائے کے پودوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے گاڑیاں گنیں اور گانے گائے۔

...

Early the next morning, they left for the village in their father's car. They drove past mountains, wild animals and tea plantations. They counted cars and sang songs.

تھوڑی دیر بعد بچے تھک گئے اور سو گئے۔

...

After a while, the children were tired and fell asleep.

والد نے اُودونگو اور اِپیو کو اُٹھایا جب وہ گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں اُنہیں نیار کنیاڈا، اُن کی
داوی درخت کے نیچے چٹائی پر آرام کرتی ہوئی ملیں۔ نیار کنیاڈا کا مطلب لوزبان میں
کنیاڈا کے لوگوں کی بیٹی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور خوبصورت عورت تھی۔

...

Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother, resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means 'daughter of the people of Kanyada'. She was a strong and beautiful woman.

نیار کنیاڈا نے اُن کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور کمرے میں خوشی سے اُن کے گرد
جھومی اور گائی۔ اُس کے پوتے اُسے شہر سے لایا ہوا تحفہ دینے کے لیے بہت بے
تاب تھے۔ پہلے میرا تحفہ کھولیں۔ اُودونگو نے کہا۔ نہیں، پہلے میرا تحفہ اپیو نے کہا۔

...

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced around the room singing with joy. Her grandchildren were excited to give her the presents they brought from the city. "First open my gift," said Odongo. "No, my gift first!" said Apiyo.

تخفے کھولنے کے بعد نیار کنیاڈا نے اپنے پوتے اور پوتی کو روایتی انداز میں دُعا دی۔

...

After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her grandchildren in a traditional way.

اُڊونگو اور اڀيو ٻاهر چلے گئے۔ انهنون نے تتليون اور پرندون کا پيچھا ڪيا۔

...

Then Odongo and Apiyo went outside. They chased butterflies and birds.

وہ درخت پر چڑھے، اور ندی میں پانی اڑایا۔

...

They climbed trees and splashed in the water of the lake.

جب اندھیرا ہو گیا تو وہ کھانے سے پہلے گھر آگئے۔ کھانے کے دوران ہی انہیں نیند
آنے لگی۔

...

When it was dark they returned to the house for dinner.
Before they could finish eating, they were falling asleep!

اگلے دن بچوں کے ابو بچوں کو نیار کنیاڈا کے پاس چھوڑ کر شہر کے لیے واپس آگئے۔

...

The next day, the children's father drove back to the city leaving them with Nyar-Kanyada.

اُودونگو اور اِپيو نے گھر کے کاموں ميں اپني دادي کي مدد کي۔ وه پاني لاتے، آگ کے ليے لکڑي لاتے۔ اُنھوں نے انڈے اور چوزے اکٹھے کيے اور باغيچے سے سبزہ چنا۔

...

Odongo and Apiyo helped their grandmother with household chores. They fetched water and firewood. They collected eggs from the chickens and picked greens from the garden.

نیار کنیاڈا نے اپنے بچوں کو لکڑی سے اُبلی ہوئی مکئی کھانا سیکھایا۔ اُس نے انہیں
سیکھایا کہ مچھلی کے ساتھ ناریل چاول کیسے کھائے جاتے ہیں۔

...

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali to eat with stew. She showed them how to make coconut rice to eat with roast fish.

ایک صبح اُودونگو اپنی دادی کے ساتھ گائیں کو چرانے لے گیا۔ وہ ہمسایوں کے باغے میں بھاگ گئیں۔ کسان اُودونگو سے کافی غصہ تھا۔ اُس نے اُسے گائیں کے فصلیں کھانے پر بہت دھمکایا۔ اُس دن کے بعد اُس نے یقینی بنایا کہ گائیں دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنسیں۔

...

One morning, Odongo took his grandmother's cows to graze. They ran onto a neighbour's farm. The farmer was angry with Odongo. He threatened to keep the cows for eating his crops. After that day, the boy made sure that the cows did not get into trouble again.

ایک اور دن بچے نیر کنیاڈا کے ساتھ بازار گئے۔ وہاں اُس نے سبزیاں، چینی اور صابن بیچنے کے لیے ٹھیلہ لگایا۔ اپیو خریداروں کو چیزوں کی قیمت بتاتی اور اودونگو اُن کے خریدے ہوئے سامان کو باندھتا۔

...

On another day, the children went to the marketplace with Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables, sugar and soap. Apiyo liked to tell customers the price of items. Odongo would pack the items that customers bought.

دن کے ختم ہونے پر انہوں نے مل کر چائے پی۔ انہوں نے کمائے ہوئے پیسوں کو
گننے میں اپنی دادی کی مدد کی۔

...

At the end of the day they drank chai tea together. They
helped grandmother to count the money she earned.

لیکن بہت جلدی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور بچوں کو اب شہر واپس جانا تھا۔ نیار کنیاڈا نے اودونگو کو ایک ٹوپی اور اپیو کو ایک جرسی دی۔ اُس نے اُن کے سفر کے لیے کھانا باندھا۔

...

But too soon the holidays were over and the children had to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.

جب اُن کے ابو انہیں لینے آئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ بچوں نے نیار کنیاڈا کی
منت کی کہ وہ اُن کے ساتھ شہر چلیں۔ میں شہر کے لیے بہت بوڑھی ہوں اُس نے
مسکرا کر کہا۔ میں تمہارا دوبارہ گاؤں آنے کے لیے انتظار کروں گی۔

...

When their father came to fetch them, they did not want to
leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them to
the city. She smiled and said, "I am too old for the city. I will
be waiting for you to come to my village again."

اُڈونگو اور اِپیو دونوں نے اُنہیں زور سے گلے لگایا اور الوداع کہا۔

...

Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said goodbye.

اُودونگو اور اِپیو سکول واپس گئے، اُنہوں اپنے دوستوں کو گاؤں کی زندگی کے بارے
میں بتایا۔ کچھ بچوں نے محسوس کیا کہ شہر کی زندگی بہتر ہے لیکن اُن میں سے تقریباً
سب نے اس بات کو مانا کہ اُودونگو اور اِپیو کی دادی بہت شاندار ہیں!

...

When Odongo and Apiyo went back to school they told their friends about life in the village. Some children felt that life in the city was good. Others felt that the village was better. But most of all, everyone agreed that Odongo and Apiyo had a wonderful grandmother!



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

دادی کے ساتھ چھٹیاں

Holidays with grandmother

Written by: Violet Otieno
Illustrated by: Catherine Groenewald
Translated by: (ur) Samrina Sana

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License.